



## ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے بقیہ میچز کی پراڈکشن بھی ایچ ڈی کوالٹی میں ہوگی

- جونٹی روڈز، رمیز راجہ، ڈومینک کارک، بازید خان، مارک باؤچر، وقار یونس، عروج ممتاز، ثناء میر اور طارق سعید براڈکاسٹ پینل کا حصہ

کراچی، 13 نومبر 2020ء:

کورونا وائرس کی عالمی وباء کے سبب 8 ماہ کے تعطل کے بعد ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2020 کے بقیہ میچز 14 نومبر بروز ہفتہ سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوں گے۔

بند دروازوں میں کھیلے جانے والے یہ چاروں میچز پاکستان کے ناظرین کے لیے پی ٹی وی اسپورٹس اور جیو سوپر پر براہ راست نشر ہوں گے۔ ایونٹ کے ابتدائی مرحلے کی طرح ان باقی ماندہ میچز کی پراڈکشن بھی ایچ ڈی کوالٹی میں کی جائے گی۔ اس دوران ہاک آئی اور ڈی آر ایس کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔

ایونٹ کے پلے آف میچز میں اسپائیڈر کیم، آلٹراموشن اور سپر سلو موشن کیمراز کے علاوہ فینز کی سہولت کے لیے کرک وز کی جانب سے ڈیٹا ان پٹ بھی جاری رہے گی۔

دیگر ممالک میں یوکے میں ہم مصالحہ، اسکائے نیوزی لینڈ اور یورواسپورٹس انڈیا کی براڈکاسٹ بیم دستیاب ہوگی۔ ایونٹ کی لائیو اسٹریمنگ پی ایس ایل کے آفیشل یوٹیوب چینل پر (پاکستان سے باہر) دستیاب ہوگی۔

پاکستان میں مداحوں کے لیے لائیو اسٹریم یہاں دیکھ سکتے ہیں:

bsports.pk, tapmad.com, tv.jazz.com.pk and goonj.pk

اس دوران دنیا کے معروف کمنٹیٹرز گراؤنڈ پر ہونے والے ایکشن پر تبصرے اور تجزیے کے لیے کمنٹری باکس میں موجود ہوں گے۔

ایونٹ کے ابتدائی مرحلے میں شریک تین غیر ملکی کمنٹیٹرز، جنوبی افریقہ کے جونٹی روڈز، انگلینڈ کے ڈومینک کارک اور مارک باؤچر کے علاوہ پاکستان کے معروف کمنٹیٹر رمیز راجہ اور بازید خان لیگ کے بقیہ میچز پر تبصرہ کریں گے۔

لیجنڈری فاسٹ باؤلر وقاریونس، قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثناء میر اور عروج ممتاز کے ساتھ معروف اردو کمنٹیٹر طارق سعید بھی ان چار میچز کے لیے بنائے گئے براڈکاسٹ پینل کا حصہ ہیں۔

ہفتے کے روز شیڈول ایونٹ کے دو پہلے آف میچز میں ملتان سلطانز اور کراچی کنگز (کوالیفائر) جبکہ لاہور قلندرز اور پشاور زلمی (ایلیمنٹر 1) میں مدمقابل ہوں گے۔

کوالیفائر کی شکست خوردہ ٹیم ایلیمنٹر 1 کی فاتح ٹیم کے ساتھ اتوار کو شیڈول ایلیمنٹر 2 میں مدمقابل آئے گی۔ اس مقابلے کی فاتح ٹیم پھر کوالیفائر کی فاتح سائیڈ سے 17 نومبر کو فائنل میں ٹکرائے گی۔

#### Partners



www.psl-t20.com  
@thePSLt20  
@thePSL  
PakistanSuperLeague  
@thepsli

PCB Headquarters  
Gaddafi Stadium,  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4